



# THE PRIDE

OFFICIAL NEWSLETTER OF SNGPL

Volume 17  
Issue 04  
May - June 2024

## SNGPL WINS PRESIDENT CUP 2023-24

ANOTHER FEATHER IN THE CAP OF SNGPL





سوئی ناردرن گیس  
Sui Northern Gas  
Media Affairs Department | سہ ماہی امور ذہانت  
f o o i g  
/SNGPLOfficial



# گیس چور کو

## نہ ملے گا ٹھکانہ

ہوگی

## قید اور جرمانہ



### بدنیتی سے گیس کے

ضیاع یا گیس کے ترسیلی نظام کو نقصان پہنچانے پر

**7 برس قید اور**  
**50 لاکھ** روپے جرمانہ

### کمرشل یا صنعتی

میٹر کو نقصان پہنچانے پر

**10 برس قید اور**  
**50 لاکھ** روپے جرمانہ

### گھریلو صارف کے

گیس چوری میں ملوث ہونے پر

**6 ماہ قید اور**  
**1 لاکھ** روپے جرمانہ

### تخریب کاری کے ذریعے

گیس ٹرانسمیشن لائن کو نقصان پہنچانے پر

**14 برس قید اور**  
**10 لاکھ** روپے جرمانہ

### ذیلی یا ڈسٹری بیوشن

لائن کو نقصان پہنچانے پر

**10 برس قید اور**  
**30 لاکھ** روپے جرمانہ

### گیس پائپ لائن کو

نقصان پہنچانے پر

**14 برس قید اور**  
**1 کروڑ** روپے جرمانہ

## خبردار!

گیس تھیفٹ کنٹرول اینڈ ریکوری ایکٹ 2016ء کے تحت گیس کے غیر قانونی استعمال، گیس تنصیبات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور گیس فراہمی میں رکاوٹ پیدا کرنا قابل سزا جرم ہے

گیس چوری کی اطلاع **1199** پر دیں



# THE PRIDE

## OFFICIAL NEWSLETTER OF SNGPL

Volume 17

Issue 04

May - June 2024

**Patron - in - Chief:** Amer Tufail  
**Chief Editor:** Syed Jawad Naseem  
**Editor:** Tanveer Yaqub  
**Editorial Team:** Jahangir Ali Sundrana  
Yasir Uzair Ahmed

Published by PR & Publications Section, Media Affairs Department

MESSAGE FROM

MANAGING DIRECTOR

I hope this message finds you well and thriving in our collective pursuit of excellence. As we continue to navigate through a dynamic business landscape, we shall stay committed to the indispensable role that innovation and new technologies play in shaping our future. Embracing these advancements not only enhances our efficiency but also propels us towards sustainable growth and leadership in our industry.

In our journey towards inclusivity and support for all team members, we understand the importance of work-life balance and the diverse needs of our workforce. Day Care facility was established at Head Office a year ago which is providing an excellent environment for the kids. This is Management's resolve to provide conducive working environment to all our female employees so that they can excel professionally while ensuring the well-being of their children.

Sui Northern has successfully achieved significant milestones in enhancing efficiencies in gas distribution network. The bifurcation of Lahore Region into Lahore East and Lahore West regions has been completed in six months despite major operational constraints. Moreover, the segregation of gas network of Rawalpindi and Islamabad has been completed to ensure better operational efficiency for the twin cities. These projects will play a pivotal role in reducing the gas losses, improving gas flow management and better calculation of UFG.

As we move ahead, let us remain steadfast in our pursuit of excellence and unwavering in our commitment to innovation, integrity, and inclusivity. Together, we shall continue to achieve milestones and surpass expectations, setting new benchmarks for success.



## In This Issue



SNGPL cricket team emerged victorious in the President Cup 2023-24



Sui Northern achieves significant operational milestones

## اس شمارے میں



سوئی ناردرن میں ڈے کثیر سنٹر کی  
خدمت کا پہلا سال

### Disclaimer:

The views and opinions of Authors/Departments/interviewed persons expressed herein do not necessarily state or reflect those of the Editorial Team. The Editorial Team cannot be held responsible for any mistake/error in facts or figures quoted by Authors/Departments/Interviewed persons.

### Share your feedback with us:

Media Affairs Department,  
Sui Northern Gas Pipelines Limited,  
Ground Floor, LDA Plaza,  
Egerton Road, Lahore.  
☎ 042-9920 4338  
☎ 042-9920 1317  
@ media.affairs@sngpl.com.pk  
f o t i n /SNGPLofficial

You can also read the newsletter online on SNGPL's website or scan the QR Code to access it on your smart device





# COVER STORY



## SNGPL WINS PRESIDENT CUP 2023-24 ANOTHER FEATHER IN THE CAP OF SNGPL

SNGPL won the President Cup One Day tournament. Sui Northern defeated the Higher Education Commission by eight wickets in the final match. The highlight of this match was Haseebullah Khan's brilliant unbeaten century for the winning team.

The final match was played at Gaddafi Stadium, Lahore. SNGPL won the toss and invited the Higher Education Commission to bat first. Higher Education scored 189 runs in 45.4 overs. SNGPL chased the target in 26.3 overs for the loss of two wickets in 26.3 overs. The excellent performance of the SNGPL team restricted the Higher Education Commission's players and did not let them score a big total. Mohammad Ali, Shah Nawaz Dahani and Yasir Shah got two wickets each.

SNGPL had no trouble reaching the target

of 190. Abdullah Shafiq and Haseebullah Khan added 92 runs for the first wicket partnership. Haseebullah Khan scored 101 runs with the help of 13 fours and three sixes and remained not out. Abdullah Shafiq scored 36 runs which included three fours and a six. Shah Nawaz Dahani of SNGPL was the highest wicket taker in the tournament with 19 wickets. Abdullah Shafiq was declared player of the tournament.

Chairman Board of Directors SNGPL, Muhammad Ismail Qureshi along with other esteemed board members, Managing Director SNGPL Amer Tufail and President Sports Steering Committee Imtiaz Mehmood, SNGPL's Management and employees, extend heartfelt congratulations to the triumphant team on this monumental achievement.









## SUI NORTHERN ACHIEVES SIGNIFICANT OPERATIONAL MILESTONES

Sui Northern has triumphantly achieved three significant milestones which will go a long way in effective and efficient Distribution of Gas.

### **Bifurcation of Lahore Region into Lahore East and Lahore West**

The bifurcation faced numerous operational constraints due to a looped network and common Gas Supply Points. Despite these challenges, Sui Northern teams have successfully bifurcated the Lahore Region into Lahore East and Lahore West within just six months. This effort introduced four new inputs through the construction of SMS Kasur, SMS Ferozepur, SMS Barki, and SMS Dial. Previously, Lahore was fed through three inputs, whereas, now it has seven.

The plan aimed to resolve low-pressure problems and enable independent and optimal operation of the network under each SMS / Gas Supply Point, helping to reconcile and reduce gas losses.

The previous looped configuration with only three SMSs / Gas Supply Points was inadequate for the large and densely populated metropolis.

Under the plan, a transmission spur, four new SMSs / Gas Supply Points, and multiple Supply Mains were executed. Notably, a 10 - Inch Supply Main was connected to the existing 16 - Inch Supply Main at Ring Road near Wara Gujran.

### **Segregation of Gas Network of Rawalpindi and Islamabad Regions**

The segregation of gas network of Rawalpindi and Islamabad faced system constraints. This significant project has now been accomplished, ensuring better operational efficiency for the twin cities.

This project ensures optimal pressure and flows for Rawalpindi and Islamabad, enhancing gas flow management for these critical cities.






The construction of a 24 - Inch diameter line along Kashmir Highway, up to the Constitutional Avenue of Islamabad, was a challenging task due to its strategic importance.

#### **Upgradation and Construction of Supply Mains in Islamabad and Rawalpindi**


To address low-pressure issues, 24 - Inch

and 18 - Inch diameter lines were laid from SMS to the Red Zone and Blue Area of Islamabad, along with an 18 - Inch diameter line from SMS Ranyal in Rawalpindi to the system's tail end.

The twin cities now have different feeds, allowing for separate UFG (Unaccounted for Gas) calculations.








## ENHANCING SAFETY AND CONTROL: MALFUNCTION PROTECTION CIRCUIT FOR POV OPERATIONS

**Syed Farrukh Shabbir & M. Ahsan Majeed**

In the realm of industrial automation, ensuring the reliability and safety of critical systems is of utmost importance. Pressure Operated Valves (POV) play a crucial role in various industrial processes. These POV's are operated via remote SCADA signal through a local Remote Terminal Unit (RTU). However, like any other Electrical system, the possibility of RTU module malfunction can't be negated, which can have severe consequences ranging from operational disruptions to safety hazards.

During rare historical occurrences, incidents of RTU malfunction were promptly managed, preventing any resultant damage. OEMs have consistently enhanced their products in terms of reliability and safety but this has significantly









# QUALITY ASSURANCE

## PIONEERING EXCELLENCE: ACHIEVING ASME AND API STANDARDS COMPLIANCE CERTIFICATION

### Faizan Manzoor Cheema

SNGPL has obtained certification for compliance of ASME and API Standards which symbolizes our pursuit of excellence and steadfast commitment to international standards. Our attainment of ASME certification embodies our commitment to quality, safety and reliability in every facet of our operations.

Risk Management & UFG Control Committee of the Board of Directors in its 47th meeting recommended that ASME / API certification for the operations and development of the SNGPL should be arranged through ASME / API authorized inspectors.

Third party, M/s. TUV Rheinland conducted audit at 22 locations of the different departments of SNGPL and issued a comprehensive audit report. All concerned departments demonstrated their commitment to address the Audit observations and undertook the corrective actions for conformance to the Audit observations.

The path to ASME certification of SNGPL has been characterized by meticulous planning, adherence to standards, and a culture of continuous improvement. We have invested substantial resources in training our personnel, upgrading our operations, and streamlining our processes to align with ASME standards.

Our quest for ASME certification is not merely a milestone but a reflection of our broader vision to conform to international standards. It is a testament to our collective efforts, tireless perseverance, and unwavering belief in our vision. It underscores our commitment to global competitiveness and our aspiration to be recognized as a benchmark for excellence worldwide.

## C E R T I F I C A T E

JOB REF NUMBER.: PAK-TR-IS-22-06-0197

CERTIFICATE NUMBER.: IS-24-05-01067

### Quality Assurance System According to ASME B31.8

The named company is evaluated by the TÜV Rheinland Arabia LLC – Pakistan Branch for the scope of activity shown below in accordance with the applicable rules of ASME Code of Pressure Piping B31.8. This Certificate is subject to the provisions set forth in the agreement. It is certified that Design, Procurement, Construction, Operation & Maintenance of Gas Distribution & Transmission Piping System have been maintained by the Company strictly in accordance with the provisions of the ASME Code of Pressure Piping B31.8.

Company: **Sui Northern Gas Pipelines Limited**

Gas House, 21 Kashmir Road, P.O Box No. 56, Lahore, Punjab 54000, Pakistan

Scope: **Design, Procurement, Construction, Operation & Maintenance of Gas Distribution & Transmission Piping System.**

Issuance Date: 23-May-2024

Attachment: Audit Report

TÜV Rheinland  
AIA Services, LLC



For TÜV Rheinland:

M. Shabbir  
Muhammad Shabbir  
ASME AI & Supervisor  
Industrial Services

Imran Hyder  
Manager  
Industrial Services & Cybersecurity

TÜV Rheinland Arabia LLC – Pakistan Branch

108, Block J-1, Johar Town, Lahore, Pakistan. Tel: +92 42 111 TUV (888) 877, E-mail: Pakistan@sa.tuv.com

The ASME certificate was presented by General Manager (QA) and the Auditor to Managing Director, SNGPL in a dignified ceremony at SNGPL Head office.

### Audited Departments

- Distribution Department
- Transmission Department
- Quality Assurance Department
- Projects Department
- Compression Department
- Corrosion Control Department
- Material Control (Distribution)
- Material Control (Projects)
- Planning & Development

### The scope of the aforementioned certification included the following areas:

- Procurement of material
- Coating of MS line pipe
- Design of gas network (Distribution and Transmission)
- Technical training of the relevant technical personnel performing works i.e., Welders / GI Fitters/PE Fusers



- Construction of Distribution and Transmission network
- Non-Destructive Testing (NDT) including Visual Testing, Dye Penetrate Testing, Magnetic Particle Inspection, Ultrasonic Testing, and Industrial Radiography.
- Operation and Maintenance of Gas Distribution and Transmission network
- Compressor Stations
- Integrity assessment of the gas network including Corrosion control

**Engineers trained under the ASME / API Certification program**

**Muhammad Akram Chaudhry**  
Deputy Chief Engineer (QA)

**Talat Mahmood**  
Deputy Chief Engineer (D)

**Khawaja Amir Hayat**  
Senior Engineer (QA)

**Fahim Javed Solanki**  
Executive Engineer (QA)

**Hamza Saeed Qureshi**  
Executive Engineer (QA)

**Muhammad Yaqoob**  
Executive Engineer (QA)

**Muhammad Junaid Iqbal**  
Executive Engineer (QA)

*The Writer is Executive Engineer  
(Quality Assurance), Head Office*



سونی ناردرن گیس  
Sui Northern Gas  
Media Affairs Department | میڈیا افیئرز ڈیپارٹمنٹ  
f t i n  
/SNGPLOfficial

# سردی کے آگے بے خیال نہ بننا!

# استعمال سمجھداری سے

# ذمہ داری سے

سردیوں کے 4 ماہ گیس استعمال  $0.9 \text{Hm}^3$  سے زیادہ ہوگا  
تو گیس بل کئی گنا بڑھ سکتا ہے

**لہذا!** روایتی گیس گیرز کا استعمال ترک کریں

گیس ہیٹر کا استعمال ہرگز مت کریں

بغیر ضرورت چولہا جلتا نہ چھوڑیں

لیکچ سے بچنے کیلئے باقاعدگی سے گیس آلات چیک کریں





# all IN THE FAMILY



## CONGRATULATIONS

Palwasha Jabeen D/O **Syed ur Rehman**, Deputy Chief Officer (BD – Retail), passed the CSS Examinations - 2023 and successfully secured the allocation. SNGPL fraternity extends heartiest felicitation to him on his daughter's remarkable success.

## اللہم یرزنا الخیر والجمع

Elder Brother of **Imran Asif**, Chief Officer (Training & Development), SNGTI, passed away on 24 June 2024.

Father of **Muhammad Shafiq**, Deputy Chief Engineer (Billing), Islamabad (D), passed away on 19 April 2024.

Mother of **Muhammad Ayyaz Khan**, Senior Officer (IT/MIS), Head Office, passed away on 23 April 2024.

Mother of **Shah Alam**, Executive Engineer (Distribution), Sub Area Office, Swabi (Mardan – D), passed away on 08 May 2024.

Father of **Ahmad Yar Khan**, Executive Officer (Compliance), Sialkot (D), passed away on 15 June 2024.

Mother of **Hafiz Iqbal Anwar**, Executive Officer (IT/MIS), Head Office, passed away on 05 June 2024.

Father of **Israr Ahmad**, Accountant, Head Office, passed away on 31 May 2024.

## بل کو پروٹیکٹڈ بنانے کا راز جانیں!

### NOV

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

### DEC

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

### JAN

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

### FEB


S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

سردیوں کے 4 مہینے گیس کا ماہانہ استعمال  $0.9 \text{ hm}^3$  سے کم رکھیں

اور سال کے 12 مہینے گیس کا بل کم سے کم ادا کریں

گیس کا استعمال  $0.9 \text{ hm}^3$  تک کیسے رکھا جاسکتا ہے

- گیس میٹر کا استعمال ہرگز نہ کریں
- روایتی گیزر میں سیورکون نصب کریں
- انسٹنٹ گیزر کا استعمال کریں
- روایتی گیزر کی جگہ سولروائٹ میٹر لگوائیں







ان کا بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک صاف ستھرے اور صحت مند ماحول میں پرورش پاتا رہا ہے۔

ڈے کیئر کمیٹی کی اراکین ہمہ وقت اس جگہ کو مزید بہتر بنانے اور گھر جیسا ماحول فراہم کرنے کی جستجو میں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ ان بچوں کے وقت کو کارآمد بنانے کے غرض سے کمیٹی کی جانب سے ڈے کیئر میں متعدد سرگرمیوں کا انعقاد کرایا جاتا ہے جس میں عید ملن پارٹی اور جشن آزادی کی تقریبات وغیرہ شامل ہیں۔ ڈے کیئر کے ننھے بانی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اپنی سالگرہ بھی یہاں خوشی سے مناتے ہیں۔

غرض کہ اس ڈے کیئر سنٹر کا قیام ان خواتین کے لئے ایک امید افزا کزن ہے جو اپنے گھریلو اور دفتری معمولات کی بیک وقت ادائیگی میں دقت محسوس کرتی تھیں۔ اس معیار کی سہولت وطن عزیز کے ہر شعبے کے دفتر میں میسر ہونی چاہیے تاکہ خواتین ملازمین اپنی ذمہ داریوں سے بہتر طور پر نبرد آزما ہو سکیں۔

مصنفہ فنانس ڈیپارٹمنٹ، ہیڈ آفس میں  
سینئر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے منسلک ہیں

ملازمین نے بھرپور شرکت کی اور اسے ویڈیو لنک کے ذریعے دیگر ریجنل دفاتر میں براہ راست بھی نشر کیا گیا۔

تقریب میں ایک تفصیلی Presentation کے ذریعے ان تمام افراد کو خراج تحسین پیش کیا گیا جن کے سر اس کاوش کے حصول کا سہرا جاتا ہے۔ اس تقریب کو رونق ان معصوم چہروں نے بھی بخشی جو اپنی نئی خوبصورت اور آرام دہ 'قیام گاہ' کو ہر زاویے سے دیکھ رہے تھے اور محضوظ ہو رہے تھے۔ ان کی ماؤں کے چہروں پر مطمئن مسکراہٹ اس ذہنی آسودگی کا مظہر تھی کہ اب ان کو دفتری اوقات میں اپنے جگر گوشوں سے دوری کا تلخ گھونٹ زیر مار نہیں کرنا پڑے گا۔ بچوں کی مناسب دیکھ بھال کرنے سے ڈے کیئر سنٹر کیلئے علیحدہ اسٹاف بھرتی کیا گیا جس میں ایک تربیت یافتہ Caretaker اور خاتون Attendent شامل ہے۔

اس سنگ میل کے قیام کو ایک سال ہو چلا ہے اور اس محدود عرصے میں ڈے کیئر کو نو نیا لوں کے دوسرے گھر کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ ان کی مائیں اب بے فکری اور ذہنی آسودگی کے ساتھ اپنے دفتری امور پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ اس اطمینان کے ساتھ







## تحیل سے حقیقت تک ایس این جی پی ایل ڈے کئیر سنٹر کی خدمات کا پہلا سال

تا بندہ ضیاء

ہیڈ آفس کی بلڈنگ کی حدود میں ہی ایک 'ڈے کئیر' کے قیام کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس سنگ میل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے امر میں دیگر شعبہ جات نے بھی ایڈمن ڈیپارٹمنٹ کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ میجمنٹ کی جانب سے خصوصی طور پر ڈے کئیر سینٹر کے قیام، اور بعد ازاں، دیگر امور کی سرپرستی اور نگرانی کی غرض سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والی چار پر عزم اور باصلاحیت خواتین آفیسرز اور سٹاف ممبرز پر مشتمل تھی۔

ان تمام افراد نے روزمرہ کی دفتری ذمہ داریوں اور رمضان کے مقدس مہینے میں مذہبی فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس خاص مقصد کو بروئے کار لانے کی غرض سے انتھک محنت کی۔ اس دوران سخت موسم سرد و گرم بھی ان کے حوصلے پست نہ کر سکے اور بالآخر ان کی ثابت قدمی رنگ لے آئی۔ ان کاوشوں کا پھل ایک صاف ستھرے اور جدید سہولیات سے آراستہ ڈے کئیر سنٹر کی صورت میں نظر آیا۔ جس میں کمیٹی کی مشاورت سے Pantry اور Baby Changing Area کی خصوصیات بھی شامل کی گئیں۔

28 اپریل 2023 کو اس سنگ میل کا افتتاح سابق چیئر پرسن بورڈ آف ڈائریکٹرز کے دست مبارک سے ہوا۔ پر رونق افتتاحی تقریب میں سینئر مینجمنٹ اور خواتین

اپریل 2023ء کی صبح سوئی ناردرن ہیڈ آفس میں ایک الگ انداز میں طلوع ہوئی۔ سورج کی کرنوں کے ساتھ چند معصوم چہروں کی مسکان بھی ماحول کو پر رونق بنارہی تھی جو آج ایک سنگ میل کی افتتاحی تقریب میں شمولیت کی غرض سے یہاں جمع ہوئے تھے، جو تھا سوئی ناردرن دفاتر کی تاریخ میں سب سے پہلے ڈے کئیر سنٹر کا اجراء۔

2010 کی دہائی میں پاکستان کے دیگر شعبہ جات کی طرح سوئی ناردرن آفس میں بھی خواتین ملازمین کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ان میں سے بیشتر کوشید ذہنی تناؤ اور پریشانی کا سامنا تھا کہ وہ دفتری اوقات میں اپنے نومولود اطفال کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث دفتری امور پر توجہ نہ دے پاتی تھیں۔ چند بچے گھریلو ملازماؤں کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے جن کی ماؤں کا دھیان بھی ہمہ وقت گھر کی جانب ہی رہتا تھا۔ دفتری حدود میں ہی ایک ایسی جگہ کا قیام، جہاں ان بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے، ان تمام خواتین اور سٹاف کا دیرینہ مطالبہ تھا۔

اس توجہ طلب مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سینئر مینجمنٹ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اس پریشانی کا مناسب حل تلاش کیا جائے۔ اس ضمن میں ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کو





سوئی ناردرن گیس  
Sui Northern Gas  
Media Affairs Department | میڈیا امور فراہمیت  
f o t i  
/SNGPLofficial

قیمت خرید میں اضافے کے باوجود  
صارفین کو سستے ریٹس پر

گیس کی فراہمی!

اگر اسے منظور شدہ نرخ

**Rs. 1,674**

/MMBTU

موسم سرما میں گھریلو شعبے کو RLNG ڈائریورٹ کی جاتی ہے۔

RLNG کی اصل قیمت

**Rs. 3,500**

/MMBTU

مگر

گھریلو صارفین سے وصول کی جانے والی اوسط قیمت

**Rs. 1,100/MMBTU**

اس کے علاوہ سوئی ناردرن اپنے 46 لاکھ (63%) پروٹیکٹڈ کیٹیگری صارفین کو

**Rs. 513/MMBTU**

کی اوسط قیمت پر گیس فروخت کرتا ہے



ایس این جی پی ایل کا ترجمان جریدہ

## تخیل سے حقیقت تک

ایس این جی پی ایل ڈے کئیر سنٹر  
کی خدمات کا پہلا سال

